

27. AL-NAML (SMUT)

Suet ke-27: 93 ayat

Ngen sembut gen Allah De Maho
Pengasiak, Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Thasin (suet) yo merupakan ayat-ayat Al Quran gen (ayat-ayat) kitab gik tem'ang. طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾
2. Utuk lak jemijai penunjuk gen berito senang utuk tun-tun gik berimen. هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾
3. (Do'oba) tun-tun gik mendireikan semyang gen melie piteak serto si yakin gen ade ne negrei akhirat. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾
4. Sesungguh net un-tun gik coa berimen gen negrei akherat, keme jemijei tobo'o kemleak baes perbuatan-perbuatab ne mako tobo'o masuk nak lem (kelimeu). إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾
5. Tobo'O ba tun-tun gik dapet (dunio) azeb-azeb gik kedek sudo'o tobo'o nak akherat merupokan tun-tun gik paling merugei. Musa A.S tenimo wahyu kunie Tuhan Muhammad kulo tenimo wahyu do'oba si Al Quran kunie Tuhan. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾
6. Gik sebenea ne udi benea-benea sudem dik nelie Al Quran kunie sisei (Allah) gik maho bijaksano igei maho namen. وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾
7. (Inget ba) wakteu Musa gen keluargo ne, sebenea ne uku kemleak opoi, uku sudo yo lak min gen udi kabar kunie ne ateu uku min gen udi soloak opoi supayo nam bediyang. إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاءَتِ كُفْرًا مِنْهَا خَبِيرٌ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾
8. Mako tat kalo tobo'o nak (kaka) opoi'o neduene ba si bahwo gik sudem kerno tun-tun gik ade nak ipit opoi'o gen tun-tun gik ade ipit ne, serto maha sucei فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

Allah Tuhan semesta alam.

9. Allah berfirman “hoi manusio sebeneane, uku ba Allah, gik maha kuaso lagi maha bijaksano. يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾
10. Sudo o nelukba tokotnu, mako tatkalo (tokot o jijey dung sudi o) Musa kemleak bergerak awie seikoa dung gik gessit” melileiba si belek mai blakang tanpo jemling sebeneane tun gik jemijei Rosul coaba saben nak adepku. وَأَلْقَىٰ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُلُونَ ﴿١٠﴾
11. Tapi tun-tun gik belakeu zalim terus temukar ne gen kebaikan (Allah lak mengampeu ne) mako sebeneane uku maho pengampun lago maho penyayang. إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾
12. Sudo ‘o masukba tangennu mai bajeunu niscayo si lak keluea puteak (bercahayo) iso karno penyakit (kedue mukjizatyo) termasuk semilan buek mikjizat (gi lak dikemukokan) gen Firaun serto kaumne sebeneane tobo’o merupakan kaum dik pasik. وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾
13. Mako tatkalo mukjizat-mukjizat keme gik te’ang o sapie gen tobo’o dio merupakan sihir gik nyato. فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾
14. Sudo’o to bo’o mengikeane karno kezaliman ngen omong (tobo’o) padahal atie tobo’o yakin (gik benea) ne, mako kemleakba betapo tun-tun menek usak. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾
15. Gik sebeneane keme sudem melie ilmu ngen Daud serto Muhammad, kedueine madeak” Segalo pujei Allah gik melebeak keme kunie gik paling deu hamba-hamba ne gik beriman. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْإِنسَانُ لِمَنِ الْإِلَهَ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾
16. Sulaiman udem mewariskan Daud, si madeak “ hoi manusio keme sudem nerimo tei tentang suaro burung gen keme sudem terimo segalo sesuatu gik وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ إِنِّي أُبَيِّنُهَا لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْتَدُونَ ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ إِذْ هُوَ

<p>sesungguhnya (kete) yo benea-benea karunio gik nyato.</p>	<p>الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾</p>
<p>17. Sudo'o nelunguk untuk Sulaiman tentarone kunie jin, manusio, gen burung sudo'o tobo'o kenatur gik tertib (nak lem barisan).</p>	<p>وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾</p>
<p>18. Apabila tobo'o sapie nak lembah semut, miling bah Seikoa semut, "hoi semut-semut masukbah mai lem sa'ang-sa'angu, supayo udi coa gik ninat Sulaiman gen tentarane, tapi tobo'o coa menyadar.</p>	<p>حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾</p>
<p>19. Mako si tersenyum gen tawei kareno (tengoa) madeak semut o, Sudo o si bedu'o ya Tuhanku, melieba uku ilham supayo tetep bersyukur nikmat-Mu gik sudem ko melie gen uku gen keduei inok bapakku supayo menea amal baik gik ko nelen sudo'o masuk ba uku gen rahmat-Mu nak lem kelompok hamba-hambamu gik baik.</p>	<p>فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾</p>
<p>20. Sudo'o si memerikso burung-burung sudo'o madeak, "bene uku coa kemleak Hud-Hud, janoku si termasuk gik coa mai".</p>	<p>وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾</p>
<p>21. Sungguh uku benea-benea lak nezeb si gen azeb gik lei ateu benea-benea lak semblek si kecuali kaleu benea-benea si mai gen uku alas an gik te'ang.</p>	<p>لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْحَقَنَّهٗ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾</p>
<p>22. mako coa an sudem o timoa ba hud-hud, sudo madeak "uku sudem namen sesuatu gik udi ati namen, uku min kunie negeri saba' sesuatu berito gik nyato.</p>	<p>فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾</p>
<p>23. sebeneane uku temmeu tun bie gik miteak tobo o, sudo o sudem meliek segalo sesuatu serto ade singasano gik lei.</p>	<p>إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾</p>
<p>24. Uku dapet si gen kelompok ne menyemeak matei bilei, selayen Allah,</p>	<p>وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ</p>

- sudo o setan menjijei tobo'o kemleak
baes peruata tobo o sudo o madang tobo
o coa dapet penunjuk.
- اللَّهُ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾
25. Supayo tobo o coa menyemeak Allah gik
keneluea jano gik tanem lenget gen nak
bumei. Gen namen jano gik udi nunyin
gen jano udi madeak.
- أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خُجِرُ الْخَبَاءِ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا
تُعْلِنُونَ ﴿١٥﴾
26. Allah coa ade (gik berhak tesembeak)
kecuali si tuhan gik temawan gik lei.
- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾
27. Madeak Sulaiman,”akan keme kemleak
jano udi benea ateuku udi termasuk tun-
tun gik mengikea.
- ﴿١٧﴾ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٧﴾
28. Laleu ba gen (min), suetku yo sudo o
nuceaba gent obo o sudo o laleuba kunie
tobo o sudo o kemleak ba jano gik tobo
madeak
- أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ
فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾
29. Miling ba (Balqis), ““Hoi tobo lei,
sebeneane sudem gik melie gen uku
debueak suet gik mulio.
- قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّيَأَلْقَى إِلَى كِتَابِ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾
30. Sebeneane suet yo, kunie Sulaiman gik
sebeneane (isei) ne, ngen sembut gen
Allah gik maha pemuek igei maha
penyayang.
- إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ﴿٢٠﴾
31. Jibeakba udi sekalian belakeu omong nak
adep ku sudo o maiba magea uku sebagai
tun-tun gik besereak direi.
- أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٢١﴾
32. Miling si (Balqis):”Hoi tobo lei, nelieba
uku pertimbangkan nak lem utusan ku
(yo) uku coa pernah memutuskan sesuatu
masalah sebelum udi ade nak lem
kelompok (ku)”.
- قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ
قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٢٢﴾
33. Tobo o jenawab “ ite adeba tun-tun gik
temwan kekuasaan gen (pulo) temwan
gik binei gik lebeak (nak lem perang) gen
- قَالُوا خَنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ
إِلَيْكَ فَاَنْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٢٣﴾

keputusan ade nak tangent ne, maka pertimbangkan ba jano gik udi melie”.

34. Si madeak:”Sebebcane Rajo-rajo anen nai negerei niscayo udi nonoakne ngen jemijeine penduduk ne go mulyo jijeji hino, ngen demikian bah gilak udi menea.

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ



35. ngen sebeneane uku lak ngirim wakea magea udi (min) hadiah ngen uku lak temungeu jano gik lak igei nemin igei kunei wakea-wakea o.

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ
الْمُرْسَلُونَ



36. mako wakteu wakea o sapie nagea Sulaiman, Sulaiman nadeak: “jano patut ko tenulung uku ngen harto? Mako jano gi nelie ne Allah, lebeak baik kunear ngen ko. Tetapi ko meraso bangga ngen hadiahmu.

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أْتِمُدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا
ءَاتَنِي ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُونَ



37. Mai bah nagea udi benea kene lak temko udi ngen bala tentara, gi udi coa kuaso melawen ne. Ngen pasti keme lak nusir udi kunei negerei o (saba) ngen terhino ngen udi janijei tawanan-tawanan gi hino dino.

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ



38. Nadeak Sulaiman: haik tun gerot, api sih gi antaro ko kete gi sanggip min singgasanone ngen uku seati udi teko ngen uku senagai tun-tun gi beserak dirai.

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ
يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ



39. Nadeakifrit (gi cerdas) kunei golongan jin, uku lak teko ngen ko ngen min singgasanone o ngen ko se ati ko kunei penan temot nu, sebenwane uku benea-benea kuet ngen min ne igei dapat percayo.

قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ
تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ



40. Nadeak bah tun gi temwan ilmeu kunei al-kitab: “uku lak min singgasana o ngen ko se ati mateinu ngijeb,” maka waktei Suliamn kemeleak singgasano o teltak nak denan ne. Si kulo nadeak,”Dio termasuk Kurnia tuhanku, utuk cemubo uku janoke

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ
بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۗ فَلَمَّا رَءَاهُ

uku bersyukur jano nguker lak nikmat ne. Ngen barang api nguker nako sebebca ne Tuhanku Maha Sugea igei maha Mulyo.

مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤١﴾

41. Si madeak:”Kubea bah bagei ne singgasanone, nako ite lak kemleak jano ke si kenal ateuke si termasuk tun-tun gi coa kenalne.

قَالَ نِكَرُوا هَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ

الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤٢﴾

42. Ngen ketiko Balqis teko: Tenanyene bah mageane “Awie yo bah singgasano nu? Si jemawab, ules-ules ne singgasano yo singgasanoku, keme bi melie pengetahuan seatine ngen keme adeba tun-tun gi besereak direi.

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ

هُوَ وَأَوْتَيْنَا أَلْعَلِمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٣﴾

43. Dan jano gi sembea selamoyo seleyen Allah lan tenggeak ne (utuk melaherkan keislaman) karno sesungguhnya si meno’o termasuk tun-tun kafir.

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ

مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٤﴾

44. Miling bangersi masuk ba lem istana maka tatkala simaneak ke’a istano ten kiro ne ku lam bioalei, dan senikeone keduei betis ne, Balqis miling “Ya Tuhanku sesungguhnya ne uku sudo mene’a dzalim terhadap uku dan bersera direi besamo Sulaiman ngen suang Allah Tuhan semesta alam.

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً

وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن

قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ

مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

45. Dan sesungguhnya ne keme sudo ngutus ngen kaum Tsamud sepaosok tobo’o saleh (gi beseru). Sembeak ba Allah tapi tobo-tibo tobo’o (jijei) duwei golongan gi bemusuh kuk.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ

اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٦﴾

46. Si miling “Hai kaumku bene kumu minai genacang kedek sebelum (kumu minai) kebaikan?hendaklah kumu minai ampun ngen Alla, agar kamu dapet rahmat.

قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٧﴾

47. Tobo'o miling: keme dapet nasib gi malang sebabne kamu ngen tun-tun gi beserta kamu sakeh. Miling"nasib kamu ade nak sisi Allah (iso si keme gi menjijei sebab). Tapi kamu gi galak nujei.
- قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۚ قَالَ طَيَّرْتُمْكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾
48. Dan adalah nak kota do'o sembilan tun semanie gim ne usak nak muko bumei dan tobo'o coa menea kebaikan.
- وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾
49. Tobo'o miling: besupeala kamu ngen gen Allah bahwa ire sungguh-sungguh lak lak semerang ne ngen tibo-tibo ngen warisne (bahwa) ite coa menyaksikan kematian keluarga tobo'o dan sesungguhnya ite adalah tun-tun gi benea.
- قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ
لَوْلِيَيْهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾
50. Dan tobo'o merencanakan maker ngen sungguh-sungguh dan keme merenacakan maker (pulo). Sedang tobo'o coa sadar.
- وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرَئًا مَكَرًا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
51. Mako kanet ba alangkah sesungguhnya akibat makan tobo'o . bahwa sane keme gi membinasakan tobo'o ngen kaum tobo'o kete-ketene.
- فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا
دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾
52. mako oba umah-umah toboho lem keadaan hoboah kerno kezaliman toboho. Sesungguhnya gede aweho (ade) pelajaran untuk de teu.
- فَلْيَلِكْ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾
53. Dan be udem keme sealamat tun-tun de beriman dan toboho terus bertaqwa.
- وَأُحْزِنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾
54. Dan (inget ba kisah) Luth, wakteu si madeak gen kaum ne: bene ko kemerjo perbuatan fashiyah ho sementaro ko kemetnen.
- وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴿٥٤﴾
55. bene ko mageh sebong-sebong untuk (memenuhi) nafsu (ko). Iso (mageh bei? Sebeneane koho adalah kaum de coa teu (akibat perbuatan ko).
- أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ
أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

56. Mako coa te jawaban kaumne selain madeak: kusirba Luth geh keluargone kunei negreiko; kerno sesungguhnya toboho tun-tun de (mendakwakan direi ne) bersih.
- ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ
يَّتَطَهَّرُونَ ﴾
57. Mako keme selamatkan si geh keluargone, kecuali ngenyanne, bi keme takdirkan si termasuk tun-tun de tinggal (mbinasokan).
- ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴾
58. Dan keme temuhunkan hujan geh tboho (hujan buteu). Kidek nien hujan de thunun geh tun-tun de nageak peringatan ho.
- ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴾
59. kadaba: kete pujei untuk Allah gen kesejahteraan geh atas hamba-hamba ne de neilah ne. Ine kah Allah lebih baik, inekah de toboho persekutukan geh Tuhan?.
- ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ
أَصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾